

EFA TIMES

ایفا ٹائمز




علم کرے
روشن جہاں



تعلیم ہر بچے کیلئے

Editorial



In This Edition

1. Editorial
2. We Nailed It
3. Know & Grow
4. Chronicles
5. Gosh-e-Takhleeqat
6. Artsy-Craftsy
7. Brain Game
8. Sair-o-Siahat
9. Campus Clicks

**Dear Readers,
Asalam-u-Aalikum!**

I hope you are safe and practicing social distance as the COVID-19 condition continues. I know it is not easy since we are all living in isolation, prefer home-schooling and miss a lot of occasions that we used to celebrate with our loved ones. Apart from this, I personally believe that this pandemic situation has given us an opportunity to think of our blessings, spend quality time with family and assess ourselves as an individual. And we must not forget that, Nations are built with individuals.



Editor
Madiha Ghauri

During the pandemic state whole Pakistan celebrated 'Independence Day' on 14th August. Flag hoisting ceremony was inaugurated at the Head Office to signify that our flag is not just a flag, it signifies unity, peace and togetherness.

Before I wind up, I want to convey that freedom is gift of our ancestors so we should value and respect it. Let's work together and let's build Pakistan together so that we could provide a better and peaceful Pakistan for the coming generations.

In Sha ALLAH

May ALLAH bless you and keep you safe. (Ameen).

English Sub-Editor

Attia Firdous

Urdu Editor

Saima Akmal

Urdu Sub-Editor

Reja Sultan

We Nailed It!

QUAID E AZAM DAY COMPETITION
25th DECEMBER 2021

CONGRATULATIONS WINNERS

Position	Name of student	Class	Campus
1st	Rana Farhan Tariq	IV	Kotli Nijabat
2nd	Mohammad Rizwan	VI	Kotli Nijabat
3rd	Zainab Sarwar	V	City Campus Burewala

Facebook: /EFASchools Instagram: @efaschools.edu.pk

IQBAL DAY

اقبال


WINNERS

	Name	Campus	Position
Primary	Amna Farooq and Friends	47 Campus Sahiwal	1 st
	Qurat Ul Ain & Zikra	SGD City Campus	2 nd
	Laiba Noor & Fellows	Sherazi Campus	3 rd
Elementary	Ijaz Ahmed	Tayyaba Campus	1 st
	Syeda Tehreem Fatima	LALA Musa Campus	2 nd
	Dua Zainab	LALA Musa Campus	3 rd
Secondary	Amina Shahzad	47 Campus Sahiwal	1 st
	Areesha Nasir	Sherazi Campus (Urdu)	2 nd
	Habiba Tafseer	Satellite Town Campus	2 nd
	Sheher Bano	PakPattan Maryam Campus	3 rd

KNOW & GROW

Amazing Body FACTS

- 1 Your fingernails grow four times as fast as your toenails.
- 2 Babies are born with 300 bones – adults have 206.
- 3 The heart circulates your blood through your body about 1,000 times each day.
- 4 The smallest bone in your body is in your ears.
- 5 Your blood has the same percentage of salt in it as the ocean does.
- 6 Your lungs are the only organs in your body that float.
- 7 Food spends up to 6 to 8 hours in the stomach and small intestine to digest.
- 8 Your eyeballs are actually part of your brain
- 9 A sneeze blows air out of your nose at 100 miles per hour.



Chronicles

A DAY IN THE HISTORY OF PAKISTAN



Independence Day is a day of the year on which a country celebrates its freedom by another country. It was the 14th of August when the Muslims of the subcontinent were able to get a land of their own, where they could live their life according to their religion. On 14th August 1947, Pakistan gained independence after remarkable efforts made by Muhammad Ali Jinnah who was a man of great caliber and had the belief that Muslims should only live happily when they would own a country led by their own people and a country that would be according to the ideology of Islam. The Muslims of the subcontinent gave many sacrifices for several years as they were not allowed to practice their own religion with freedom being a minority. However, the efforts made by people like Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal and Sir Syed Ahmed Khan made sure that their sacrifices did not go in vain and they were able to provide the Muslims an independent homeland.

Independence Day for any country is like a festival and the people of Pakistan celebrate this festival with enthusiasm and joy. They unite together under the green and white flag of Pakistan and celebrate happiness with their friends and family. People from all over the country have different ways of celebrating the Independence Day. Some people dress up in green and white to show their love for the country while others visit national monuments like Minar-e-Pakistan and Quaid-e-Azam's Mausoleum. Many people also use this opportunity to meet up with relatives and give gifts to their loved ones.

Although, the people of Pakistan celebrate the Independence Day with patriotism and great passion but they should remember Jinnah's dream. We should be thankful to Almighty ALLAH for this great blessing because the Muslims who are residing in India since the partition are facing many challenges such as, social discrimination,

security concerns and educational problems.

The Indians target the Muslims for eating beef and in performing religious practices. Muslims in India don't have the liberty to excel in professional and educational field. Indian's brutal behaviour is damaging the Muslims mentally. Indian's don't allow Muslims to promote Urdu language.

Pakistan, our independent and sovereign motherland gives us the right to live a stress-free life and breathe in a free atmosphere without any suppression. We should realize the in-depth importance of living in an independent and sovereign country and offer heartfelt thanks to ALLAH Almighty for this blessing.

Long Live Pakistan!

Zeeshan Baig (Class 6)
Jalal Campus, Sialkot

BRAVEST OF THE BRAVE

Major Rana Shabbir Sharif, also known as Shabbir Sharif Shaheed was



born on 28th April 1943. He was a Pakistani Army officer, the only person ever who received both the Sitara-e-Jurat and Nishan-e-Haider for his bravery. He is the nephew of another Nishan-e-Haider holder, 'Raja Aziz Bhatti'. Shabbir Sharif, is the elder brother of Former Chief of the Army Staff of Pakistan, 'General Raheel Sharif'.



Major Shabbir was an outstanding sportsman of hockey, cricket, football, athletics and cycling. He was declared as best sportsman of hockey and cricket of Saint Anthony High School.

By nature, Major Shabbir was daring, possessed extraordinary courage and a person full of life. He had good sense of humour and knew how to laugh during hardships. He truly followed his family motto which was always emphasized by his grandfather and father 'Kasab-e-Kamal Kun, Ke Aziz-e-Jhansho' which means 'do something great in order to become honourable in the world'.




His military career started when he was commissioned in Pakistan Army on 19th April, 1964 and after successfully completing his training, after which he was awarded the "Sword of Honor". He was posted to the 6th Battalion of the Frontier Force Regiment.

Major Shabbir Sharif Shaheed fought bravely against the enemy on December 06, 1971 and embraced martyrdom in bid to foil an Indian attack on the motherland.

At the time of martyrdom, Major Shabbir Shareef Shaheed was 28-year old.

Sadia Kamran (Class 8)
Al Majeed Campus, Burewala

PRESENT & OLD NAMES OF CITIES OF PAKISTAN



Ahmad Ali (Class 8)
Al Barkat Campus, Pakpattan

Sr. No.	Present Names of Cities	Old Names of Cities
1	Lahore	Mahmood Pur
2	Quetta	Shalkot
3	Karachi	Kalanchi
4	Gujranwala	Khan Pur
5	Faisalabad	Lyallpur
6	Sahiwal	Montgomery
7	Peshawar	Purusapura
8	Pakpattan	Ajodhanpur

خلیقات

EARTHQUAKE Myths



Earthquake is one of the worst natural disasters. It causes a catastrophe. Earthquake occurs due to the shaking, rolling or sudden shocks of the earth's surface. It is known as a quake, tremblor or tremor. Earthquakes can range in size from those that are so weak that they cannot be felt to those violent enough to toss people around and destroy whole cities. An earthquake is measured on Richter's scale.

A seismometer detects the vibrations caused by an earthquake. It plots these vibrations on a seismograph. The strength, or magnitude, of an earthquake, is measured using the Richter scale. Quakes measuring around 7 or 8 on the Richter scale can be devastating.

It is said that, Earthquakes are 'Earth's natural means of releasing stress' and this is a

fact-based truth but there are many interesting myths associated to the earthquakes in different cultures across the globe.




In Ancient times earthquakes were thought to be caused by restless gods or giant creatures slumbering beneath the Earth. In contrast, the early Greek philosophers developed a theory that earthquakes were caused by movements of gases trying to escape from underground. Up until the 18th century Western scientists, including Isaac Newton, thought that were caused by explosions of flammable material deep underground.



Russians believe that a god named 'Tuli' drove an earth-laden sled pulled by dogs.

When the dogs stopped to scratch at fleas, the earth shook. Similarly, in Peru the concept behind the earthquakes was that whenever, a god visited the earth to count how many people were there, his footsteps caused earthquakes. To shorten his task, the people ran out of their houses to shout 'I'm here, I'm here!' and it is said that is why people run out of their houses when the earthquake comes.



Hindus think that eight mighty elephants hold up the land. When one of them gets weary, it lowers and shakes its head, causing an earthquake.

Muslims believe, that Earthquakes are a sign

amongst the signs of Allah, and all power to bring or stop earthquakes are in the control of no one else but Allah Alone! The earthquakes that we experience in this World today are just a pre-runner to the earthquake of the end of time. The earthquakes are one of the signs of Allah and their comings are absolutely in Allah's control. Even with all the technology available in the World today, the geologists are not able to point out where and when is the next earthquake going to strike! Allah alone knows where and when it is going to come.

Danial Ahmad (Class 7)
Ahmad Haider Campus, Sahiwal



اُستاد نے تیسری جماعت کے طالب علموں سے سوال کیا کہ بچو! یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے معصومیت سے کہا، ”جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔“ اُستاد نے ”صحیح“

دوسرے بچے نے معصومیت سے کہا، ”جن لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔“ اُستاد نے کہا، ”یہ بھی صحیح“ تیسرے بچے نے معصومیت سے کہا، ”وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں۔“ اُستاد نے کہا، ”یہ بھی صحیح“

Saida Nauman (Class 5)
Adalat Garha Campus, Sialkot



وقت کی پابندی

طالب علم اگر سکول نہ جائے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ کسان اگر فصل وقت پر نہ بوائے، وقت پر پانی نہ دے اور وقت پر نہ کائے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کارخانہ دار وقت پر کام نہ کروائے اور مزدور اگر وقت پر کام نہ کرے تو اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دنیا میں کامیاب زندگی جینے کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہے۔ روزہ بھی وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت پر سحری کھانا پڑتی ہے۔ وقت پر افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر سحری دیر سے کھائی جائے اور افطاری وقت سے پہلے یا بعد میں کی جائے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور سارے دن کی محنت رائیگاں جاتی ہے۔

اصل میں روپیہ پیسہ دولت نہیں بلکہ وقت ہی دولت ہے کیونکہ دولت وقت کی محتاج ہے۔ وقت سے ذرا سی غفلت برتیں تو دولت بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے اور انسان قلاش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اور لا پرواہ ہو کر وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ عزت رہتی ہے نہ دولت نہ صحت۔۔۔

Saira Khan (Class 8)
Abdul Sattar Campus, Mianwali


وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتیں۔ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آجاتا ہے اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ وقت ایک عظیم دولت ہے وہی شخص دنیا میں عزت و ثروت حاصل کر سکتا ہے جو وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع نہ کریں، ہر کام مقررہ وقت پر کرنے کی عادت اختیار کریں اور کبھی آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ یہی پابندی وقت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ درحقیقت ایک قیمتی خزانہ ضائع کر دیتے ہیں۔ گزرا ہوا وقت کبھی کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آتا۔ پابندی وقت کے ساتھ اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنی اقتصادی حالت درست کر سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں یوں ہم کسی کی محتاج نہیں ہوں گے۔

نظام کائنات بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے۔ دن رات مقررہ وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ چاند سورج ایک مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پروگرام میں کبھی بے قاعدگی نہیں آنے دیتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اگر وقت کی پابندی کا عادی نہیں ہوتا تو یہ اس کی ناسمجھی یا نااہلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

گوشہ

Controlling Anger

There was once a young boy who had problem controlling his temper. When he became angry, he would just say anything that came to his mind and hurt people. So his father gave him a bag of nails and a hammer and said, "Every time you get angry, hammer one nail into the fence in our backyard".



MORAL

ANGER IS A DANGEROUS WEAPON LIKE A KNIFE. WHEN YOU STAB A KNIFE IN A MAN AND DRAW IT OUT, THE WOUND HEALS BUT THE SCAR REMAINS.

Sana Abid (Class 5) | Abdul Rafay Campus, Rawalpindi

The first few days the boy hammered so many nails that he emptied half the bag. Over the weeks, the number of nails he hammered to the fence reduced and gradually, his temper was much in control. Then came a day when he didn't lose his temper at all. His father asked him to remove one nail each day.


Finally, on the day the child was removing the last nail, his father says, "You have done well, boy. But do you see the holes in the wall? The fence is never going to be the same, even after repainting. Likewise, when you say mean things in anger, you will leave a scar in the person's mind, as the nails did to the fence".

Proverbs

- If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. **(African Proverb)**
- Words should be weighed, not counted. **(Yiddish Proverb)**
- It is better to light a candle than curse the darkness. **(Chinese Proverb)**
- Measure a thousand times and cut once. **(Turkish Proverb)**
- A spoon does not know the taste of soup, nor a learned fool the taste of wisdom. **(Welsh Proverb)**

Zeeshan Haider (Class 8)
Arbab Campus, Quetta

Book Review



This book **"Our Superhero EDHI BABA"** is written by Maria Riaz. Maria Riaz's objective of writing this book was that, our children are often inspired by western heroes so she decided to change it. The book teaches children about the life long achievements of Abdul Sattar Edhi and what he gave back to Pakistan. This book teaches young ones that, Edhi is Pakistan's real-life National hero and represents his super-power of generosity. Like all storybooks, this one also has a valuable lesson that you don't have to be rich to be generous. Although, the book has been published & designed for children but anyone can admire the efforts of Abdul Sattar Edhi.

Usama Javid (Class 9)
Arbab Campus, Quetta

قائد اعظم محمد علی جناحؒ



سرکار نے مجھے بچے دوکانیں بند کرنے کا حکم دیا مگر ایک مسلمان دکاندار کی گھڑی دس منٹ پیچھے تھی اور وہ ناٹم پر دوکان نہ بند کر سکا۔ انگریز فوج اس دکاندار کو گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئی۔ دکاندار نے بہت منت سماجت کی مگر جج خائنیت دینے کو تیار نہ تھا وکیل نے بہت دلائل دیے مگر بے سود۔ مگر وکیل بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کی گھڑیاں اتار کر جج کے سامنے رکھیں اور بولا جناب ان سب کا ناٹم ایک ہے؟ جج نے کہا نہیں! وکیل نے سوال کیا اگر اس کمرے میں سب گھڑیوں کا ناٹم ایک نہیں تو پورے ملک میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جج لا جواب ہو گیا اور بہت متاثر ہوا۔ یہ وکیل برصغیر کا دمکتا چمکتا قائد اعظم تھے۔

Hanan Faiz (Class 6)
Al Barkat Campus, Pakpattan

جاگو

جاگو سونے والو جاگو
وقت کے کھونے والو جاگو
باغ میں چڑیاں بول رہی ہیں
کلیاں آنکھیں کھول رہی ہیں
پھول خوشی سے جھوم رہے ہیں
پتوں کا منہ چوم رہے ہیں
جاگ اٹھے دریا اور نہریں
جاگ اٹھیں موجیں اور لہریں
ناؤ چلانے والے جاگے
پارلگانے والے جاگے
ساری دنیا جاگ رہی ہے
کام کی جانب بھاگ رہی ہے
لکھنے پڑھنے والو جاگو
پھولنے بڑھنے والو جاگو
منہ دھو دھا کر ناشتہ کھاؤ
بستہ لے کر مدرسے جاؤ
صبح کا سونا خوب نہیں ہے
اچھا یہ اسلوب نہیں ہے
جاگو سونے والو جاگو
وقت کے کھونے والو جاگو

حفیظ جالندھری

Maaz Khan (Class 9)
Al Malik Campus, DIK

ANSWER

1. **Maulana Shaukat Ali**
(Former Leader of Khilafat Movement)
2. **Maulana Muhammad Ali Jauhar**
(Former Leader of Khilafat Movement)

GUESS WHO?



استاد کا احترام

ایک دفعہ علامہ اقبال سیکلٹ میں ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ دکان کے تختے پر کچھ دھرا ہوا تھا علامہ اقبال کچھ پی رہے تھے۔ ان کا ایک جوتا پاؤں میں دوسرا زمین پر تھا۔ اتفاق سے ان کے استاد مولانا سید میر حسن شاہ ادھر سے گزرے۔ ان کی نظر اپنے استاد پر پڑی تو فوراً تختے سے اترے۔ استاد کو جھک کر سلام کیا اور اُسے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ ایک پاؤں میں جوتا تھا دوسرے میں نہ تھا۔ اسی حالت میں شرمساری محسوس کیے بغیر استاد کو گھر تک پہنچا کر لوٹے اور پھر اپنا جوتا پہنا۔

پیارے ساتھیو! استاد معاشرے کی سب سے قابل احترام شخصیت ہے مگر دور حاضر میں اس کے ادب و احترام کو بھلا دیا گیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استاد کے سامنے بادب ہو کر بیٹھو، اگر جماعت میں استاد گفتگو کر رہا ہو تو سلام کیے بغیر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں۔ استاد کے پاس بیٹھ کر ہنسنے اور زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کریں۔ استاد کے پاس بیٹھے ہوں تو کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں۔ استاد کی غیر موجودگی میں بھی اُس کے ادب کا لحاظ کریں اور استاد کی زندگی میں اور موت کے بعد اس کے لئے دعا کریں۔

Sadia Aziz (Class 5) | Abdul Rafay Campus, Rawalpindi

ذمہ داری

ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔۔۔ کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ ایک آدمی نے کہا کسی بات کرتے ہو بابا۔۔۔ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگو کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا۔۔۔ جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ ہونا ہے اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کا کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہو گے۔

Aliyan Qureshi (Class 8)
Basirpur Campus, Okara

Artsy-Craftsy

Easy Origami Fish - Origami for Kids

What you need;
Square Origami Paper
Googly Eyes
(for the fun of it)



Abeer Aziz (Class 6)
104-SB Campus, Sargodha

Brain Game

Math Brain

Can you guess who is left-handed and why?



Answer

So, the answer is 5.

It's irregular to serve drinks with left hand for a right-handed person.

Tabish Ali (Class 7)
Al Majeed Campus, Burewala



Guess It Out!



- Where does today come before yesterday?
- It belongs to you, but other people use it more than you do. What is it?
- What has hands, but can't clap?
- What has one head, one foot and four legs?
- What has many teeth, but can't bite?
- What has words, but never speaks?

Answers

The dictionary | Your name | A clock | A bed | A comb | A book

Aisha Siddique (Class 7)
Ahmad Haider Campus, Sahiwal



راز

ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا۔ اُسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک روز اُس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کی ٹھان لی، حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اُس نے بھی جانے کا مقصد اراہ کر رکھا تھا، آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ لیکن اُسے ایک شرط پر بتانے کی حامی بھری کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اُس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اُسے سخت سزا بھگتنا ہوگی۔

بادشاہ نے بتایا کہ، اُس کے سر پر ایک سینگ ہے، اسی لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتا ہے! اس بات کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اُس نے اپنے اُس وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہی حکم صادر کیا کہ اُسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔

وزیر بہت سمجھدار تھا، وہ جھٹ سے بولا، بادشاہ سلامت! جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکتے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے۔ لہذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی آپ کو بھی ملنی چاہیے۔

میرے عزیز دوستو! اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں، پھر آپ اُن کے غلام بن جاتے ہو۔

Zubair Ali (Class 7)
Al Rehman Campus, Jhelum

ذہانت پانچ پالا کی



ملا نصیر الدین کو ایک مجلس میں خطبہ دینے کی دعوت دی گئی۔ وہ اس سے بیزار تھے اور مجمع سے دور رہنا چاہتے تھے، مگر دعوت ٹھکرا نا ان کے نزدیک اچھی بات نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجلس میں شریک ہوئے اور خطاب کا موقع آیا تو حاضرین سے پوچھا۔

’کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے خطبے میں کیا کہنے والا ہوں؟‘

لوگوں نے نفی میں سر ہلایا، جس پر ملا نصیر الدین نے کہا،

’میں ان لوگوں سے کیا کلام کروں جو یہ تک نہیں جانتے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔‘

یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس پر سبھی تعجب میں پڑ گئے، مگر کیا کر سکتے تھے۔

دوسرے ہفتے ملا نصیر الدین کو خطاب کی دعوت دے دی گئی۔ اس مرتبہ ملا نصیر الدین منبر پر آئے تو پھر وہی سوال کیا۔ اس بار لوگوں نے ’ہاں‘ کہا۔ ملا نصیر الدین نے یہ سنا تو بولے اچھا، جب آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں، تو پھر میں اپنا اور آپ کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا۔

یہ کہہ کر ملا نصیر الدین منبر سے اتر گئے۔ ان بار لوگ تذبذب میں پڑ گئے اور فیصلہ کیا کہ پھر انہیں خطبہ کے لیے مدعو کیا جائے۔ تیسرے ہفتے ملا نصیر الدین پھر تشریف لائے اور وہی سوال پوچھا۔ اس بار ان کے مداحوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ لوگوں نے طے شدہ جواب دیا۔ نصف لوگوں نے ’ہاں‘ کہا تو نصف نے نفی میں سر ہلایا۔ ملا نصیر الدین ان کے جال میں کہاں پھنسنے والے تھے۔ یہ سنا تو بہت آرام سے بولے

’وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کہنے والا ہوں، باقی لوگوں کو بتادیں۔‘

یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر آئے اور لوگوں کو مایوس لوٹا پڑا۔

Adeel Fatima (Class 8)
Abdul Rafay Campus, Rawalpindi

بلی کی شادی

پیاری سی گڑیا، گڑیا کی دادی
دادی کی بلی، بلی کی شادی
شادی میں سارے چوہے بلائے
سب نے خوشی کے ڈنکے بجائے
گڑیا نے بانٹی سب میں مٹھائی
یہ لو بھیا، وہ کھاؤ بھائی
چوہوں نے مل کر نغمہ سنایا
سب نے سنا تو دل کو یہ بھایا
بلی تھی دادو کی اچھی سہیلی
اب رہ گئی ہے دادو کی کیلی

Abdul Rafay
(Class 6)
Daharki Campus, Daharki

سیر و سیاحت

ٹیکسلا



راولپنڈی سے ۲۲ میل دور، بجانب شمال مغرب، ایک قدیم شہر۔ ۳۲۶ ق م سکندر اعظم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور یہاں پانچ دن ٹھہرا۔ یہیں راجا مہی نے سکندر کی اطاعت قبول کی۔ جس کے بعد سکندر راجا پورس سے لڑنے کے لیے جہلم کے کنارے پہنچا۔ باختر کے یونانی حکمرانوں دیریس نے ۱۹۰ ق م میں گندھارا کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ مہاراجا اشوک اعظم کے عہد میں بھی اس شہر کی رونق پورے عروج پر تھی اور بدھ تعلیم کا مرکز تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں مشہور چین سیاح ہیون سانگ یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں اس شہر کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں گو تھک سٹائل کا ایک عجائب گھر ہے، جس میں پانچویں صدی قبل مسیح کے گندھارا آرٹ کے نمونے، دس ہزار سکے (جن میں بعض یونانی دور کے ہیں) زیورات، ظروف اور دیگر نوادرات رکھے ہیں۔

شیندور



پاکستان میں سیر و سیاحت کرنے والے افراد شیندور پاس سے ضرور واقف ہوں گے۔ یہ درہ سطح سمندر سے ۳۷۰۰ میٹر یعنی (۱۲۲۰۰ فٹ) بلند ہے۔ کوہ ہندوکش میں واقع یہ درہ ضلع چترال کو ضلع غدر اور گلگت سے ملاتا ہے اور صدیوں سے لوگ یہ درہ پیدل کر اس کرتے آئے ہیں جبکہ موجودہ دور میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی مسافروں کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک منی بس گلگت سے براستہ شیندور پاس سے مستوج تک جاتی ہے۔ وہاں سے با آسانی چترال تک سفر کیا جاسکتا ہے۔

شیندور کو گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل پارک کا درجہ دے دیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقسام کے جنگلی جانور دیکھے جاسکتے ہیں جس میں سرفہرست جنگلی یاک ہیں۔ جو غول درغول وادی میں گھومتے نظر آتے ہیں جو کہ خطرناک اور وحشت ناک ہونے کے باوجود انسان دوست جانور ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹیکس، لومڑی، چیتا اور مارخور بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹراؤٹ فیش بھی اس علاقے کی سوغات ہے۔ یہاں کے لوگ کافی ملنسار اور سادہ زندگی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہاں کی مقامی زبانیں بلتی، شینارخوار وغیرہ ہیں۔ یہاں کے لوگ فراخ دل اور مہمان نواز ہیں۔ شیندور پاس کے ٹاپ پر ایک نہایت خوبصورت دلکش جھیل بھی واقع ہے جو اپنے محل وقوع اور دلکشی میں اپنا غانی نہیں رکھتی۔ ٹھہری ہوئی اس جھیل جسے عمومی طور پر شیندور لیک سے جانا جاتا ہے کے ارد گرد کوہ ہندوکش کے بلند و بالا پہاڑ چاندی کی طرح چمکتی سفید برف کی چادر اوڑھے آسمان تک جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان بلند و بالا پہاڑوں کا عکس جھیل سے دکھائی دیتا ہے تو قدرت سے پیار کرنے والا ہر شخص قدرت کی حسین کاری گری کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ درہ عمومی طور پر مٹی سے نومبر تک کھلا رہتا ہے ہے یہاں کا موسم لمحہ بہ لمحہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اچانک زوردار گرج چمک کے ساتھ کالے بادل اُٹھ آتے ہیں۔ ٹھنڈی بخ بستی ہوئیں چلتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ ڈالہ باری بھی ضرور ہوتی ہے۔ خاموش جھیل کی وسعت اور ٹھہراؤ دیکھ کر اس سے آگے بڑھ جانے کو جی نہیں کرتا۔

قلعہ رانی کوٹ



دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ، جسے عظیم ”دیوار سندھ“ بھی کہا جاتا ہے، ضلع جامشورو کے علاقے ”سن“ سے ۳۰ کلومیٹر جنوب مغرب میں ”کوہ کیرتھر“ کی بے آب و گیاہ سرزمین پر بنایا گیا ہے۔ چونے کے پتھر کی چٹان پر بنے اس قلعے کے ۴ دروازے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی ہے کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی یا کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی تھی، تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ہزار سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت سے ملتا ہے جب میرپور خاص کے میر ”شیر محمد تالپور“ نے اٹھارویں صدی میں اس قلعہ کی مرمت کروائی۔ ۱۰ میٹر تک بلند اس قلعے کی دیواریں چیم اور چونے کے پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ یہ قلعہ بھی یونیسکو کے ”عالمی ثقافتی ورثے“ کا حصہ ہے۔

ٹیکسلا میوزیم



ٹیکسلا میوزیم پاکستان کے خوبصورت ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ ہری پور روڈ پر واقع اس میوزیم کا نقشہ لاہور کے میونسپل آف آرٹس (موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس) کے پرنسپل سیوان نے تیار کیا تھا۔ اس کی بنیاد برٹش انڈیا کے وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ نے رکھی تھی۔ اس میوزیم میں ٹیکسلا سے دریافت شدہ ۷۰۰ سے زائد نوادرات محفوظ ہیں لیکن عجائب گھر کے اندر فوٹو گرافی کی اجازت نہیں ہے۔

ٹیکسلا شہر کے کئی مقامات کو ۱۹۸۰ء میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔

CAMPUS CLICKS



Abu Bakar Campus, Faisalabad




Al Malik Campus, DTK



Daudzai Campus, Peshawar



Noor Campus, Sargodha



EFA-EDUCATION FOR ALL
NO Child Left Behind-A Project of the Largest Educational Network in Pakistan

تعلیم ہر بچے کیلئے

**Regional Offices
Parent Helplines**

Lahore

**042-35761664
042-35711664**

parent.central-i@alliedschools.edu.pk
parent.central-ii@alliedschools.edu.pk

Gujranwala

055-3410341

parent.upperpunjab@alliedschools.edu.pk

Faisalabad

041-8711458

parent.rachna@alliedschools.edu.pk

Rawalpindi/Islamabad

051-2805157

parent.north@alliedschools.edu.pk
parent.ajk@alliedschools.edu.pk

Peshawar

091-5253241

parent.kpk@alliedschools.edu.pk

Multan

061-6355341

parent.south@alliedschools.edu.pk

Karachi

021-34555676

parent.sindh@alliedschools.edu.pk

Quetta

0333-0130554

parent.balochistan@alliedschools.edu.pk

Sargodha

048-3258238

parent.kpk@alliedschools.edu.pk

Mianwali

00

parent.south@alliedschools.edu.pk

Sialkot

052-3254302

parent.sindh@alliedschools.edu.pk